

CL. I.

KHALIFES OUMAÏADES.

Abdou'l-Mélik.

- No. 1. el-Basrah (بالبصرة), a. 80.
deux trous à droite.
2. Æ. Istakhr (باصطخر), a. 80.
brisée et rougie.
3. el-Basrah, a. 81.
-

Abdou'l-Mélik ou Wéld I.

4. Débil (بدليل), a. 86.
Fraehn, Quinque Cent. imprim. No. 3.
5. Istakhr, a. 91.
Fr. No. 7.
6. Wasit (بواسط), a. 92.
7. Darabjerd (بدربجرد), a. 92.
8. Ménadhir (مناذر), a. 93.
Fr. No. 14.
9. Wasit, a. 93.
*

| | |
|--------------------------------------|--------|
| No. 10. <i>A.</i> , | a. 93. |
| 11. Wasit, | a. 94. |
| 12. er-Rey (بالرى), Fr. No. 16. | a. 94. |
| 13. Wasit, | a. 95. |
| 14. Dimeschk (بدمشق), Fr. No. 21. | a. 95. |

Wéld ou Souleiman.

| | |
|------------------------------|--------|
| 15. Wasit, | a. 96. |
| 16. Wasit, | a. 96. |
| 17. Ménadhir, Fr. No. 22. | a. 96. |
| 18. Dimeschk, | a. 96. |

Souleiman.

| | |
|--------------------------------|--------|
| 19. <i>A.</i> , Fr. No. 23. | a. 98. |
|--------------------------------|--------|

Omar.

| | |
|---|---------|
| 20. Dimeschk, | a. 100. |
| 21. Dimeschk, | a. 100. |
| 22. el-Koufah (بالكوفة), Fr. No. 27. | a. 101. |

Yézyd II.

| | |
|------------|---------|
| 23. Wasit, | a. 103. |
|------------|---------|

Yézyd II ou Hischam.

| | |
|------------|---------|
| 24. Wasit, | a. 105. |
|------------|---------|

Hischam.

- No. 25. Wasit, a. 107.
26. Æ., a. 110.
27. Dimeschk, a. 111.
28. Wasit, a. 112.
percée à droite en deux endroits.
29. Wasit, a. 113.
30. Afrikiyah, (بافريقية), a. 114.
Fr. No. 40.
31. Dimeschk, a. 118.
Fr. No. 41.
32. Dimeschk, a. 120.
Fr. No. 44.
33. Wasit, a. 120.
34. el-Bab (بالباب) c. à. d. Derbend, a. 120.
Fr. No. 45.
35. Wasit, a. 121.
36. Wasit, a. 122.
37. Wasit, a. 123.
percée en bas.
38. Æ. A. بسم الله R. محمد
 لا اله الا رسول الله
 الله وحده
 ...عز الفليس...
 عبد الله بن يزيد
Fr. Recens. p. 18, No. 2.
39. Wasit, a. 124.
40. Wasit, a. 127?
percée et brisée en bas.
-

Hischam ou Wélid II.

- | | |
|----------------|---------|
| No. 41. Wasit, | a. 125. |
| 42. Wasit, | a. 125. |
| 43. Wasit, | a. 125. |
| 44. Wasit, | a. 125. |
| 45. Wasit, | a. 125. |
-

Wélid II, Yézid III ou Ibrahim.

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 46. Wasit, percée à gauche. | a. 126. |
| 47. Wasit, deux trous en bas. | a. 126? |
-

Ibrahim ou Merwan II.

- | | |
|------------|---------|
| 48. Wasit, | a. 127. |
|------------|---------|
-

Merwan II.

- | | |
|--|---------|
| 49. el-Koufah, A. لا حكم الا لله Fr. No. 53. Ties. No. 657. | a. 128. |
| 50. el-Koufah, Fr. No. 51. | a. 129. |
| 51. Wasit, | a. 129. |
| 52. Wasit, | a. 130. |
| 53. es-Samiah (بالسامية), Ties. No. 651 et p. 300. Blau, Zeitschr. d. D. m. G. XXIX, p. 661. | a. 131. |
| 54. Wasit, | a. 131. |

CL. II.

KHALIFES ABBASIDES.

Abou'l-Abbas Abdoullah es-Saffah.

- | | | |
|--------|-------------------------------|-------------------|
| No. 1. | el-Koufah, | a. 132. |
| 2. | el-Basrah, | a. 133. |
| 3. | el-Koufah, | a. 133. |
| 4. | el-Basrah, | a. 134. |
| 5. | Ménadhir, | a. 134. |
| | Fr. Quinque Cent. msc. No. 5. | |
| 6. | Nahr-Tira (بندر تيرى), | a. 134. |
| | Fr. No. 6. | |
| 7. | el-Koufah, | a. 134. |
| 8. | el-Basrah, | a. 135. |
| 9. | Æ. es-Samiah, | a. 135. |
| 10. | Æ? | a. 135. |
| 10, a. | Æ. A. لا اله الا الله وحده | R. محمد رسول الله |
| | Marg. . . . عبد الملك . . . | |
| | Ties. No. 664? | |
| 11. | el-Basrah, | a. 136. |


Abou-Djafar el-Mansour.

- No. 12. el-Basrah, a. 137.
13. el-Koufah, a. 138.
Fr. No. 11.
14. Merv (مرو), a. 139.
Ibid No. 12.
15. el-Koufah, a. 139.
15 a. Æ. A. لا اله الا الله R. محمد رسول الله
الله وحده لا شريك له
الله
Marg. بسم الله ضرب هذا
الفاطس بالبصرة سنة تسع
(وثلاثين) ومية
Ties. No. 708.
16. el-Koufah, a. 140.
17. el-Basrah, a. 140.
18. el-Koufah, a. 141.
18 a. Æ. A. لا اله الا الله R. محمد رسول الله
الله وحده لا شريك له
الله
.....
Marg. ... سنة احدى واربعين
ومية
Cf. Ties. No. 715.
19. el-Koufah, a. 142.
une moitié
20. el-Basrah, a. 142.
Fr. No. 14.
21. Æ. Boukhara, (بخارا), a. 143.
22. Æ. Boukhara, a. 143.

- No. 23. el-Koufah, a. 143.
percée à droite en bas.
24. el-Basrah, a. 143.
brisée $\frac{3}{4}$,
25. el-Koufah, R. $\frac{\text{—}}{\text{∴}}$ a. 144:
26. el-Koufah, A. $\frac{\text{—}}{\text{∴}}$ a. 144.
27. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{س}}$ a. 144.
28. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{س}}$ a. 144.
percée à droite.
29. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{س}}$ a. 144.
bosselée.
30. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{∴س}}$ a. 145.
31. el-Koufah, R. $\frac{\text{—}}{\text{∴}}$ a. 145.
32. el-Koufah, R. $\frac{\text{—}}{\text{∴}}$ a. 146.
33. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{○}}$ a. 146.
34. el-Basrah, R. $\frac{\text{—}}{\text{○}}$ a. 146.
35. el-Basrah, a. 146.
36. er-Rey, R. ما امر به ا || لهدى محمد || بن امير المؤمنين a. 146.
- 36a. Æ. a. 146.
Ties. No. 758?
37. er-Rey (Mehdi), a. 147.

- No. 51. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{ع}}$ a. 152.
52. Medinet-ous-Salam, a. 152.
53. Medinet-ous-Salam, a. 152.
54. Medinet-ous-Salam, a. 152.
55. el-Abbasiyah (بالعباسية), R. $\overline{\text{عمر}}$ a. 152.
56. el-Mohammediyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 152.
57. A, M. كله jusqu'à محمد,
Fr. No. 26. a. 153.
58. el-Abbasiyah, R. $\overline{\text{عمر}}$ a. 153.
59. el-Abbasiyah, R. $\overline{\text{عمر}}$ a. 153.
60. el-Abbasiyah, R. $\overline{\text{عمر à rebours}}$ a. 153.
61. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{ع}}$ a. 153.
62. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{ع}}$ a. 153.
63. Medinet-ous-Salam, a. 153.
64. el-Mouhammediyah, (Mehdi). R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 153.
65. el-Mouhammediyah, (Mehdi). R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 154.
66. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{عع}}$ a. 154.
67. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ a. 154.
68. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ a. 154.
69. Æ. el-Bab, a. 154 ou 144.
A. II. ما امر به المهدي محمد
بن امير المؤمنين
Fr. No. 29.
70. Medinet-ous-Salam, A. $\overline{\text{ع}}$ R. $\overline{\text{عع}}$ a. 155.

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| No. 71. Medinet-ous-Salam, A. $\overline{\text{..}}$ | R. $\overline{\text{عع}}$ | a. 155. |
| 72. Medinet-ous-Salam, id. | id. | a. 155. |
| 73. el-Mouhammediyah, (Mehdi), R. $\overline{\text{.}}$ | | a. 155. |
| 74. el-Mouhammediyah. percée à droite. | id. | a. 155. |
| 75. Afrikiyah? R. $\overline{\text{°}}$ بزید | | a. 155. |
| 76. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{عع}}$ | | a. 156. |
| 77. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | | a. 156. |
| 78. Medinet-ous-Salam, | | a. 156. |
| 79. A. rognée, | | a. 157. |
| 80. A. rognée, | | a. 157. |
| 81. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{.}}$ $\overline{\text{عع}}$ | | a. 157. |
| 82. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | | a. 157. |
| 83. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | | a. 157. |
| 84. el-Abbasiyah, R. $\overline{\text{ع}}$ بزید | | a. 157. |
| 85. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{—}}$ $\overline{\text{عع}}$ | | a. 158. |
| 86. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{عع}}$ | | a. 158. |
| 87. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | | a. 158. |
| 88. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{عع}}$ | | a. 158. |



| | | | |
|---------|------------------|--------------------------------|---------|
| No. 89. | el-Abbasiyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 158? |
| | | id. | |
| 90. | el-Abbasiyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 158? |
| | | id. | |
| 91. | el-Abbasiyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 158? |
| | | id. | |
| 92. | el-Abbasiyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 158? |
| | | id. | |
| 93. | el-Abbasiyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 158? |
| | percée en bas. | | |

Abou-Abdillah el-Mehdi Mouhammed.

| | | | |
|------|---|--------------------------------|---------|
| 94. | Medinet ous-Salam, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 159. |
| 95. | Medinet-ous Salam, une moitié. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 159. |
| 96. | el-Mouhammediyah, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 159? |
| 97. | Medinet-ous-Salam, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 98. | Medinet-ous-Salam, R. Fr. No. 44. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 99. | Medinet-ous-Salam, R. modèle plus petit. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 100. | el-Mouhammediyah, R. Fr. No. 43. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 101. | el-Abbasiyah, R. mal frappée. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 102. | Æ. Boukhara, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |
| 103. | Æ. Boukhara, R. | $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ | a. 160. |

- No. 104. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\cdot}$ a. 161.
105. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ a. 161.
percée à droite.
106. el-Mouhammediyah, a. 161.
107. el-Basrah, R. $\frac{\text{الخليفة المهدي}}{\text{محمد}}$ a. 161.
108. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{يزيد}}{\text{°}}$ a. 161.
mal frappée et rognée.
109. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\cdot}$ a. 162.
110. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\cdot}$ a. 162.
111. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\cdot}$ a. 162.
112. Medinet-ous-Salam? R. $\overline{\cdot}$ a. 162.
113. Djey (بمدينة جي), R. $\frac{+}{\text{عيسى}}$ a. 162.
114. Djey, R. $\frac{\text{عيسى}}$ a. 162.
115. Djey, R. $\frac{\text{عيسى}}{\text{id.}}$ a. 162.
116. Djey, R. $\frac{\text{id.}}{\text{id.}}$ a. 162.
percée en haut.
117. Afrikiyah, R. $\frac{\text{يزيد}}{\text{°}}$ a. 162.
entre رسول et الله un signe en forme de \angle
118. el-Mouhammediyah, R. $\overline{\text{°}}$ a. 162.
119. Arminiyah (بارمينية), R. $\overline{\text{°}}$ a. 162.
en bas deux trous, qui ont enlevé une partie
du nom de la ville.
120. Æ. Ties. No. 931. a. 162?
- 1) I. لا اله الا الله
لا شريك له
- II. محمد
رسول
الله
يزيد
- 2) — 6) monnaies plus ou moins semblables au No. 1).

| | |
|--|---------|
| No. 121. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 163. |
| 122. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 163. |
| 123. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 163. |
| 124. el-Abbasiyah? R. $\frac{\circ}{\text{بزرید}}$ mal frappée. | a. 163. |
| 125. el-Abbasiyah, R. id. mal frappée, fendue. | a. 163. |
| 126. A., | a. 163. |
| 127. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 164. |
| 128. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 164. |
| 129. Medinet-ous-Salam, R. — | a. 164. |
| 130. el-Abbasiyah, R. $\frac{\circ}{\text{بزرید}}$ | a. 164. |
| 131. el-Abbasiyah, R. id. | a. 164. |
| 132. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{ع}}$ | a. 165. |
| 133. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | a. 165. |
| 134. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{id.}}$ | a. 165. |
| 135. el-Mouhammediyah, $\overline{\text{م}}$ | a. 165. |
| 136. el-Abbasiyah, R. $\frac{\circ}{\text{بزرید}}$ | a. 165? |
| 137. Medinet-ous-Salam, R. $\overline{\text{ع}}$ | a. 166. |
| 138. el-Mouhammediyah, R. $\overline{\text{م}}$ | a. 166. |
| 139. el-Abbasiyah, R. $\frac{\circ}{\text{بزرید}}$ | a. 166. |

- No. 140. Adherbaidjan (بأذربيجان), R. $\frac{\text{نصر}}{\text{ع}}$ a. 166
Fr. No. 61. Ties. No. 993.
141. el-Yemamah (باليمامة), R. $\frac{\text{حجر}}{\text{ع}}$ a. 166.
Fr. No. 64.
142. Afrikiyah, (Haroun). a. 166.
143. Afrikiyah, R. $\frac{\text{حلب}}{\text{ع}}$ a. 166.
une moitié.
144. Kerman (بكرمان), R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 167.
145. Afrikiyah, (Haroun). a. 167.
146. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{الخليفة المهدي}}{\text{ع}}$ a. 167.
147. el-Mouhammediyah, R. id. a. 167.
148. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 167.
149. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 167.
150. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 167.
151. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 167.
152. el-Yemamah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{حجر}}$ a. 167.
153. A. a. 168.
154. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 168.
155. Kasr-ous-Salam (بقصر السلام), R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 168.
Fr. No. 73.

- No. 156. Kasr-ous-Salam, R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 168.
une moitié.
157. Medinet-ous-Salam (الخليفة المهدي), R. $\frac{\text{ع}}{\text{ع}}$ a. 169.
Fr. No. 77.
158. Haroun-abad (بهرون اباد), R. $\frac{\text{ارمينيه}}{\text{حسن}}?$ a. 169.
Ties. No. 1076.
159. Haroun-abad, id. id. a. 169.
160. Afrikiyah, a. 16?
161. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 169.
162. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{و}}{\text{يزيد}}$ a. 169.
163. (el-Abbasiyah), R. $\frac{\text{و}}{\text{يزيد}}$ a. 169.
effacée.
- 164 — 169) monnaies en cuivre effacées et incertaines.

Abou-Mouhammed Mousa el-Hâdi.

170. el-Harouniyah (بالهرونية), خزيمه a. 169.
R. الخليفة الهادي || ما امر
به بهرون || بن امير المؤمنين
بن حازم
Fr. No. 83. Ties. No. 1077.

- No. 171. Æ. el-Harouniyah, R. $\frac{\text{الخليفة}}{\text{الهادي}}$ a. 170.
Fr. No. 82.
M. ما امر به الامير خزيمه بن حازم
عز (sic) الله نصره
172. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ر}}{\text{ه}}$ a. 170.
173. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ر}}{\text{ه}}$ a. 170.
175. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{ابر}}{\text{هيم}}$ a. 170.
176. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{هيم}}{\text{هيم}}$ a. 170.
une moitié.
177. el-Harouniyah, a. 170.
178. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{(effacée)}}{\text{ر}}$? a. 170.

Hâdi ou Haroun.

179. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 170.
180. el-Abbasiyah, R. id. a. 170.
181. el-Abbasiyah, R. id. a. 170.

Abou-Djafar (Abou-Mouhammed) Haroun-er-Reschid.

182. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{مبا}}{\text{الخليفة الرشيد}}$ a. 170.
رك

- No. 197. (el-Abbasiyah), R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 172.
le nom de la ville est effacée.
198. el-Abbasiyah, a. 172?
rognée.
199. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{روغ}}$ a. 172.
Fr. No. 99.
200. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{دا}}{\text{ود}}$ a. 172.
201. el-Mouhammediyah, a. 172.
une moitié.
202. Medinet-ous-Salam, R. Entre le 1-r et a. 173.
le 2-d cercles intérieurs en très petits
caractères: ما امر به عبد الله هرون
امير المؤمنين
fendue par le milieu. Fr. No. 106.
203. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{الخليفة هرون}}$ a. 173.
روغ
204. Afrikiyah, id. a. 173.
A. percée en bas.
205. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 173.
206. el-Abbasiyah, R. id. a. 173.
207. el-Abbasiyah, R. id. a. 173.
208. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{بهلول}}$ a. 173.
Ties. No. 1169
209. el-Mohammediyah, R. $\frac{\text{دا}}{\text{ود}}$ a. 173.
Fr. No. 105. Ties. No. 1170.
210. Æ. Boukhara? Effacée. a. 173?
211. el-Abbasiyah? R. $\frac{\text{ع}}{\text{يزيد}}$ a. 174.
fendue.

- No. 212. Medinet-ous-Salam, R. comme le No. 202. a. 175.
213. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{بـ}}{\text{بـ}}$
belle. a. 175.
214. el-Moubarekah (بالمباركة), R. $\frac{\text{ع}}{\text{بـ}}$ a. 175.
215. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع ع}}{\text{نـ}}$ a. 175.
216. Afrikiyah, R. id. a. 175.
217. Afrikiyah, R. id. a. 176.
218. Afrikiyah, R. id. a. 176.
219. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{نـ}}$ a. 176.
220. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{الفضل}}$ a. 176.
221. Afrikiyah, R. id. a. 176.
222. el-Abbasiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{بـ}}$ a. 176?
223. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع}}{\text{الفضل}}$ a. 177.
Fr. No. 120.
224. Afrikiyah, R. id. a. 177.
225. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع ع}}{\text{نـ}}$
effacée. a. . . .
226. Æ. Afrikiyah, R. $\frac{\text{ع ع ع}}{\text{الفضل}}$ a. 177?
227. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{بـ}}{\text{ع}}$ a. 177.
A. deux trous à droite. Fr. No. 121.

- No. 228. Afrikiyah, R. الفضل a. 178.
une moitié.
229. Zerendj (بزرنج), R. الخليفة الرشيد a. 178.
Fr. No. 128. جعفر
230. el-Mouhammediyah? (el-Mehdia, Antakia, a. 178.
el-Basra?), R. محمد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
Fr. No. 130. موسى
231. Medinet-ous-Salam, R. جعفر a. 179.
232. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 179.
233. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 179.
234. Arminiyah, R. الامين ولى عهد المسلمين a. 179.
Fr. No. 135.
235. Zerendj, R. جعفر a. 179.
ع
Fr. No. 133.
236. Afrikiyah, R. ? هرثه a. 179.
fendue et rognée.
237. Medinet-ous-Salam, R. جعفر a. 180.
238. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 180.
239. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 180.
240. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 180.
241. el-Mouhammediyah, R. و a. 180.
ما امر به الامير الامين محمد بن
امير المومنين في ولاية محمد بن يحيى
جعفر
- V. Ties. No. 1276.
242. el-Mouhammediyah, R. id. a. 180.

- No. 243. el-Mouhammediyah, R. و a. 180.
مما امر به الأمير الأمين
محمد بن أمير المؤمنين
جعفر
244. el-Mouhammediyah, R. id. a. 180.
245. el-Mouhammediyah, R. id. a. 180.
246. Afrikiyah, R. هرثه a. 180.
○
247. Afrikiyah, R. id. a. 180.
248. Afrikiyah, R. id. a. 180.
249. Æ. Afrikiyah, R. ○ a. 180.
هرثه
250. Afrikiyah, R. محمد a. 180.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
العنكى
- Fr. No. 140. Ties. No. 1305.
251. Afrikiyah, a. 180.
très effacée. id.
252. Zerendj, R. جعفر a. 180.
253. Medinet-ous-Salam, R. جعفر a. 180.
254. Afrikiyah, R. هرثه a. 180.
— — —
رهمه
○
255. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 181.
256. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 181.
257. el-Mouhammediyah, R. و a. 181.
مما امر به الأمير الأمين
محمد بن أمير المؤمنين
جعفر

- No. 258. el-Mouhammediyah, R. V. No. 257. a. 181.
259. el-Mouhammediyah, R. id. a. 181.
A. percée en haut.
260. el-Basrah, R. ما امر به الامير الامين
محمد بن امير المؤمنين a. 181.
261. Zerendj, R. $\frac{\text{علي}}{\text{يزيد}}$
ع a. 181.
262. Zerendj, R. $\frac{\text{علي}}{\text{يزيد}}$
ع a. 181.
- Fr. No. 141. Ties. No. 1299.
263. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{جعفر}}{\text{جعفر}}$ a. 182.
264. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 182.
265. Medinet-ous-Salam,
une moitié. a. 182.
266. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{ا.ل.}}{\text{جعفر}}$ a. 182.
267. el-Mouhammediyah, R. id. a. 182.
effacée.
268. el-Mouhammediyah, R. ما امر به الامين ولي
عهد المسلمين الامير
محمد بن امير المؤمنين a. 182.
- Fr. No. 157. T. No. 1818.
269. el-Mouhammediyah, R. محمد رسول الله صلى الله عليه
وما امر به الامير الامين
محمد بن امير المؤمنين
جعفر a. 182.
- Fr. No. 148. T. No. 1819.

- No. 270. el-Basrah, R. ما امر به الامير الامين محمد بن امير المؤمنين a. 182.
271. Balkh (بيلخ), R. ما امر به الامير الامين محمد بن امير المؤمنين ولي عهد المسلمين ع a. 182.
272. Arminiyah, R. سعيد بن محمد الخ الامين ولي عهد المسلمين سلم a. 182.
- Fr. No. 146. Ties. No. 1332.
273. Merv, A. — R. ع a. 182.
274. Zerendj, R. effacé (على) همام ع a. 182.
275. Medinet-ous-Salam, R. — جعفر a. 183.
276. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 183.
277. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 183.
278. el-Mouhammediyah, R. س محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر به الامير الامين محمد بن امير المؤمنين جعفر a. 183.
- belle.
279. el-Mouhammediyah, R. — جعفر a. 183.
280. el-Mouhammediyah, une moitié. a. 183.

- No. 281. Afrikiyah? R. $\frac{\text{محمد}}{\text{العكس}}$ a. 183.
effacée, rognée.
282. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{effacé}}{\text{جعفر}}$ a. 184.
283. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{س}}{\text{جعفر}}$ a. 184.
Fr. No. 163. Ties. No. 1357.
284. el Mouhammediyah; id. a. 184.
285. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{جعفر}}{\text{جعفر}}$ a. 184.
Fr. No. 163.
286. Zerendj, a. 184.
A. percée à gauche.
R. $\frac{\text{علي}}{\text{الخليفة الرشيد}} \\ \text{بن برکه}$
Fr. No. 155. Ties. No. 1364.
287. Balkh, R. $\frac{\text{و}}{\text{ما امر به الامير ولي}} \\ \text{عهد المسلمين الامين}} \\ \text{محمد بن امير المومنين}} \\ \text{ع}} a. 184.
Fr. No. 157.$
288. el-Koufah, بالكوفة A. $\frac{\text{جعفر}}{\text{جعفر}}$ R. $\frac{\text{جعفر}}{\text{جعفر}}$ a. 184?
Fr. No. 158.
289. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{جعفر}}{\text{جعفر}}$ a. 185.
290. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{و}}{\text{ما امر به الامير الامين}} \\ \text{محمد بن امير المومنين}} \\ \text{جعفر}}$ a. 185.
Fr. No. 168. Ties. No. 1374.

- No. 291. el-Mouhammediyah, a. 185.
une moitié.
292. Balkh, R. $\frac{و}{ع}$ a. 185.
293. Balkh, id. a. 185.
294. Zerendj, R. $\frac{علي}{بن بركة ع}$ a. 185.
295. Merv, R. v. No. 273. R. a. 185.
296. Æ. Bokhara, R. $\frac{عدل}{عدل}$ a. 185.
M. امر به الامير على بن عيسى ابقاه الله
في ولاية سعيد بن جعفر
Recensio No. 200, p. 25*.
297. Æ. Bokhara, id? id. a. 185.
effacée.
298. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{جعفر}{جعفر}$ a. 186.
299. Balkh, R. $\frac{و}{ع}$ a. 186.
300. el-Mouhammediyah, R. $\frac{سلم}{جعفر}$ a. 186.
301. el-Mouhammediyah, R. $\frac{و}{جعفر}$ a. 186.
302. el-Mouhammediyah, id. a. 186.
303. Afrikiyah, R. $\frac{هرورم}{محمد رسول الله بن رحه همام}$ a. 186.
Fr. No. 151. T. No. 1353.

- No. 304. Zerendj, R. $\frac{\text{علي}}{\text{بن بركة}} \text{ع}$ a. 186.
305. Zerendj, R. $\frac{\text{علي}}{\text{سيف بن الطاراي}}$ a. 186.
306. Medinet-ous-Salam, a. 187.
helle.
307. Medinet-ous-Salam, a. 187.
308. Arran (باران), محمد a. 187.
R. ما امر به الخليفة هرون امير المؤمنين
بن يزيد
Fr. No. 171.
309. Djordjan (دربنة جرجان), R. $\frac{\text{ع.ح.}}{\text{ع.ح.}}$ a. 187.
R. id.
Fr. No. 173. T. No. 1417; cf. p. XXV, 2).
310. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{سلام}}{\text{صرد}}$ a. 187.
T. No. 1411 et 1183, I).
311. Balkh, R. و a. 187.
ما امر به الامير المامون
عبد الله بن امير المؤمنين ولي
ولي عهد المسلمين
ع
312. Balkh, id. a. 187.
313. Arminiyah, R. $\frac{\text{محمد}}{\text{بن يزيد}}$ a. 187.
314. Dimeschk, R. ما امر به الامير المامون عبد الله a. 187,
بن امير المؤمنين
Fr. No. 175.

- No. 315. Zerendj, R. علي a. 187.
سيف بن الطاراي
316. Zerendj, R. id. a. 187.
317. Medinet-ous-Salam, R. —
o a. 188.
318. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 188.
319. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 188.
320. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 188.
321. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 188.
322. el-Mouhammediyah, R. —
o a. 188.
323. el-Mouhammediyah (Emine), R. عبيد a. 188.
324. el-Mouhammediyah, R. ام جعفر a. 188.
Fr. No. 179. صرد
325. er-Rafkah (بالرافقة), R. — a. 188.
Fr. No. 176.
326. Balkh, R. ع a. 188.
(Mamoun, ولي عهد المسلمين)
327. Balkh, id. a. 188.
328. Balkh, id. a. 188.
329. Arran, A. — R. خزيمه a. 188.
بن حازم
330. Arran, R. خزيمه a. 188.
une moitié.

- No. 331. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{هـ}}{\text{—}}$ a. 189.
332. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{id.}}{\text{—}}$ a. 189.
333. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{id.}}{\text{—}}$ a. 189.
334. el-Mouhammediyah, A. $\frac{\text{جعفر}}{\text{عبید الله}}$ a. 189.
R. $\frac{\text{دوفن (?) الله}}{\text{لام جعفر}}$
335. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{هـ}}{\text{—}}$ a. 189.
336. Balkh, R. la même que le No. 311. a. 189.
337. Balkh, R. $\frac{\text{علي}}{\text{—}}$ a. 189.
(Mamoun, ولي عهد الخ)
338. Balkh, R. id. $\frac{\text{علي}}{\text{ع؟}}$ a. 189.
339. Balkh, R. comme le No. 334. a. 189.
340. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{هـ}}{\text{—}}$ a. 189.
341. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{id.}}{\text{—}}$ a. 190.
342. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{id.}}{\text{—}}$ a. 190.
343. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{الخليفة}}{\text{المأمون}}$ a. 190.
344. Taberistan (بطهرستان), a. 190.
345. Arran, R. $\frac{\text{خزيمه}}{\text{—}}$ a. 190.

346. Madène-ousch-Schasch (معدن الشاش), a. 190.
c.-à-d. Taschkend. (Mamoun). R. $\frac{\text{علي}}{\text{نصر}}$
347. Madène-ousch-Schasch, id. id. a. 190.
348. Madène-ousch-Schasch, id. id. a. 190.
349. Madène-ousch-Schasch, id. id. a. 190.
350. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{—}}{\text{O}}$ a. 190.
351. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{—}}{\text{id.}}$ a. 190.
pièce fausse en plomb.
352. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{—}}{\text{ه}}$ a. 191.
percée en haut.
353. el-Mouhammediyah, R. id. a. 191.
belle. A double grenelle.
354. el-Mouhammediyah, R. id. a. 191.
355. Madène-Badjines (معدن باجينس), R. $\frac{\text{ام.}}{\text{ع}}$ a. 191.
percée à gauche en bas.
356. Madène-Badjines, R. سلام
ما امر به الامير الامين
بن امير المؤمنين
(محبوب؟ ايوب؟) " " بوب
Fr. No. 188. a. . . .
357. Madène-Badjines, R. ام جعفر a. 191.
ما امر به الامير الامين محمد بن امير المؤمنين
داود
Fr. No. 187. Ties. No. 1502.
358. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{—}}{\text{ه}}$ a. 192.
359. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.

- No. 360. Medinet-ous-Salam, R. هـ a. 192.
361. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.
362. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.
363. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.
364. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.
365. Medinet-ous-Salam, id. a. 192.
366. Armīyah, R. أبيوب بن سليمان a. 192.
Fr. No. 195.
367. Abraschahr (مدينة ابرشهر), R. نيسابور نصر بن سعد a. 192.
Fr. No. 189.
368. Abraschahr, R. الله الفضل a. 192.
Fr. No. 190. Ties No. 1548.
369. Madène-Badjines (Emine), R. ام جعفر داود a. 192.
370. Madène-Badjines, R. ام a. 192.
مما امر به الامير الامين محمد النج جعفر.
Fr. No. 196.
371. Arran, R. سليمن? a. 192.
بن . . .
372. el-Mouhammediyah, R. هـ a. 192.
373. Medinet-ous-Salam, id. a. 193.
374. Medinet-ous-Salam, id. a. 193.
375. Medinet-ous-Salam, id. a. 193.
376. Medinet-ous-Salam, id. a. 193.

- No. 377. Medinet-ous-Salam, a. 193.
mal frappée, très effacée, grand trou
à droite.
378. Medinet-ous-Salam, R. محمد a. 193.
un seul cercle intérieur, petit module. رسول
Fr. No. 202. Ties. No. 1531. الله
اله
379. Bokhara, R. $\frac{\text{الله}}{\text{عثمن}}$ a. 193.
380. Bokhara, R. $\frac{\text{علي}}{\text{حمويه}} ?$ a. 193.
381. Hérat (بهرآة), a. 193.
R. ما امر به عبد الله هرون امير المؤمنين
حمويه
percée en bas.
Fr. No. 203.
382. er-Rafikah, R. $\frac{\text{ر}}{?}$ a. 193.
Fr. No. 200. T. No. 1537.
383. Zereñdj, R. $\frac{\text{هرقه بن اعين}}{\text{الحكم بن سنان}}$ a. 193.
Fr. No. 201.
384. Balkh, R. $\frac{\text{ع(؟)ح}}{\text{ه}}$ a. 193.
385. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{و}}{\text{ما امر به الامير الامين}} a. 193.
ولي عهد المسلمين
جعفر$
Fr. No. 204.
386. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{ه}}{\text{ه}}$ a. 193.
387. el-Mouhammediyah, id. a. 193.
388. Samarcand (بسمرقند), R. $\frac{\text{ه}}{\text{حمويه}}$ a. 193.

- No. 389. Nisabour (بنيسابور), R. محمد رسول الله
ما امر به عبد الله
هرون امير المؤمنين
هو به a. 193.
390. Abraschahr, R. بنيسابور
نصر بن سعد a. 193.

Abou-Abdillah ou Abou-Mousa Mouhammed el-amin.

391. Medinet ous-Salam, R. ربي الله a. 193.
392. Balkh (مدینه بلخ), R. لله a. 193.
Fr. No. 206. T. No. 1554.
393. Bokhara (Mamoun) R. لله a. 193.
394. Samarcand, R. لله a. 193.
Fr. No. 207.
395. el-Mouhammediyah, R. ربي الله a. 193.
Fr. No. 205.
396. A. R. الخليفة a. 194.
397. Medinet-ous-Salam, R. ربي الله a. 194.
ما امر به عبد الله الامين محمد امير المؤمنين
العباس
398. Medinet-ous-Salam, R. ه a. 194.
399. Medinet-ous-Salam, R. ربي الله a. 194.
fausse.

No. 400. Samarcand, R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

401. Samarcand, id. a. 194.
mauvaise empreinte.

402. Balkh (Mamoun), R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

403. Balkh (Mamoun), R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

404. Nisabour, R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

Fr. No. 214. T. No. 1586.

405. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.
A. percée en haut.

406. el-Mouhammediyah, R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

407. Boukhara, R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$ a. 194.

408. Madène-Badjines, R. $\frac{\text{ام جعفر}}{\text{داود}}$ a. 194.

ما امر به الامير الامين محمد بن امير المؤمنين

NB. Le revers de cette pièce a le type des
pièces de a. 192.

409. A., $\frac{\text{الخليفة}}{\text{الامين}}$ a. 195.

410. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{ربي الله}}{\text{العباس}}$ a. 195.

411. Medinet-ous-Salam, id. a. 195.

412. Medinet-ous-Salam, a. 195.

413. Medinet-ous-Salam, a. 195.

- No. 414. Madène-Badjines, R. عبيد a. 195.
415. Balkh, R. الله
الفضل a. 195.
416. Nisabour, R. الله
الفضل a. 195.
417. Medinet-ous-Salam, R. ربى
الامين a. 196.
418. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 196.
419. Medinet-ous-Salam, R. ربى الله
العباس a. 196.
420. Medinet-ous-Salam, a. . . .

A. ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام

R. ربي الله

محمد . . .

مما امر به عبد . . .

محمد امير المؤمنين . . .

un fragment $\frac{1}{8}$.

Abou'l-Abbas ou Abou-Djafar Abdoullah el-Mamoun.

421. el-Mouhammediyah, a. 195.

A. طاهر بن الحسين مولى المامون

R. الله

مما امر به عبد الله

المامون امير المؤمنين

الفضل

Fr. No. 223. Ties. No. 1631.

- No. 422. Hérat, R. الله a. 195.
محمد رسول
الله مما امر به
الامام المامون
الفضل
423. Samarcand, A. ع R. id. a. 196.
ما امر به الامام
المامون امير المومنين
الفضل
424. Samarcand, R. id. a. 196.
Fr. No. 227.
425. Arran, R. طاهر a. 196.
ما امر به الامام المامون
عبد الله امير المومنين
بن محمد
426. Arran, R. id. id. a. 196.
belle.
427. Isbahan, R. الله a. 196.
هرثه
avec un point sous les ب de ضرب et
de اضبهان.
428. el-Mouhammediyah; A. و a. 196.
R. الله
ذوالرياستين
429. el-Mouhammediyah, a. 196.
A. deux trous à droite.
طاهر بن الحسين مولى المامون
R. الله
ما امر به عبد الله عبد الله
المامون امير المومنين
الفضل
Fr. No. 228. T. No. 1645.

- No. 430. Nisabour, a. 196.
 A. (sur la marge en bas): اسمعيل
 R. $\frac{\text{الله}}{\text{الفضل}}$
431. el-Mouhammediyah, R. id. a. 197.
432. Isbahan, a. 197.
 A. avec un point sous les ب de ضرب et
 de اصهبان
 R. $\frac{\text{الله}}{\text{هرغه}}$
 avec trois points sur
433. Isbahan, id. R. $\frac{\text{الله}}{\text{هرغه}}$ a. 197.
434. Isbahan, id. a. 197.
435. Isbahan, A. ... R. ... a. 197.
 une moitié. سول ... لاشربكها
 هرغه
436. Samarcand, R. $\frac{\text{الله و به}}{\text{الفضل}}$ a. 197.
 T. No. 1652.
437. Samarcand, id. a. 197.
438. Medinet-ous-Salam, R. $\frac{\text{الله}}{\text{ذوالرياستين}}$ a. 198.
 A. brisée en bas.
439. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 198.
 Fr. No. 236: $\frac{\text{الله}}{\text{ذوالرياستين}}$
440. Medinet-Merw, R. $\frac{\text{الله}}{\text{ذوالرياستين}}$ a. 198?

- No. 441. Isbahan, R. الله لا شريك له a. 198.
 avec le point sous les ب de صرب et
 de اصبهان.
 Fr. No. 234. Ties. No. 1656.
442. Samarcand, A. الله لا شريك له a. 199.
 avec un point sous le م du mot سمرقند.
443. Samarcand, A. id. R. id. a. 198.
444. el-Mouhammediyah, A. المشرق a. 198.
 R. الله ذو الرياستين a. 198.
 Fr. No. 235.
445. A. Misr. A. الفضل الطلب a. 199.
 Fr. No 237, a. T. No. 1683.
436. Isbahan, R. الله ذو الرياستين a. 199.
 avec un point sous les ب de صرب et
 de اصبهان.
447. Isbahan, id. a. 199.
448. Samarcand, A. المشرق R. id. a. 199.
449. Samarcand, A. id. R. id. a. 199.
450. Medinet-ous-Salam, A. id. R. id. a. 200.
451. Samarcand, A. المشرق R. id. a. 200.
452. Samarcand, A. id. R. id. a. 200.

- No. 453. el-Mouhammediyah, a. 200.
 A. deux trous à droite. R. id.
 Fr. No. 243.
454. Medinet-ous-Salam, R. _____ a. 201.
 Fr. No. 246. ذو الرياستين
455. Isbahan, A. _____ R. _____ a. 201.
 المشرق لله ذو الرياستين
 légende dans le cercle extérieur:
 لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
456. Isbahan, A. id. R. id. a. 201.
457. Isbahan, A. id. R. id. a. 201.
458. el-Mouhammediyah, R. id. a. 201.
459. Samarcand, A. _____ R. id. a. 201.
 المشرق
460. Zerendj, A. _____ a. 201.
 كلثوم
 T. No. 1726.
461. Medinet-ous-Salam, R. _____ a. 202.
 اه
462. Medinet-ous-Salam, R. _____ a. 202?
 لله ذو الرياستين
463. Æ. entre a 200 et 202.
 T. No. 1737.
464. Medinet-ous-Salam, R. _____ a. 203.
 الخليفة
 الامامون
465. Samarcand, A. _____ R. _____ a. 203.
 المشرق لله ذو الرياستين
466. Medinet-ous-Salam, R. _____ a. 204.
 الخليفة الامامون
 très effacée. - (مهيد)

- No. 467. Arminiyah, R. اسد بن يحيى? a. 204.
Fr. No. 251. الحسين بن سعد
468. Madène-Badjines, R. ابراهيم بن داود (دداد) a. 204.
469. Medinet-ous-Salam, R. الله a. 205.
470. Medinet-ous-Salam, id. a. 205.
471. Isbahan, A. المشرق R. ذو الرياستين a. 205.
Fr. No. 255.
472. Isbahan, R. id. a. 205.
473. el-Mouhammediyah, A. الله R. id. a. 205?
474. Samarcand, A. المشرق R. ذو الرياستين a. 206.
475. Isbahan, R. الله a. 207.
ع
476. Medinet-ous-Salam, R. الله a. 208.
477. Isbahan, id. a. 208.
T. No. 1796, 2).
478. Dimeschk, id. a. 213.
479. Dimeschk, id. a. 214.
480. Arran, R. خلد بن يزيد a. 216.
ابراهيم بن علي
Fr. No. 274. Ties. No. 1830.
481. Medinet-ous-Salam, A. الله الامر الخ R. الله a. 217.
482. el-Koufah, a. 217.
Fr. No. 276.

No. 483. Misr, R. الله a. 218.
A. percée à droite.
Fr. No. 277.

Abou-Ishak Mouhammed el-Moutasim-billah.

484. Medinet-ous-Salam, R. الله a. 219.
المعتصم بالله

485. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 220.
Fr. No. 281.

486. Arran, A. à la marge: بشير بن عبدوه (بش?) a. 220.
deux trous en bas.

R. الله و به a. 220.
المعتصم بالله

خليفة الله
الماموني

Fr. No. 280. T. No. 1847.

487. Isbahan, R. الله a. 221.
Fr. No. 282.

488. Isbahan, R. الله a. 221.
المعتصم بالله

489. بارض الحمر a. 223.
Fr. No. 284. Ties. No. 1854.

490. id. A. deux trous en bas. R. خزيمه a. 223.

محمد رسول
الله مما امر به الخليفة
هرون امير المؤمنين
بن حازم
Fr. No. 285.

- No. 491. Medinet-ous-Salam, R. لله a. 225.
المعتصم بالله
492. Medinet-ous-Salam, id. a. 22.?
effacée.
-

Abou-Djafar Haroun el-Wathiq-billah.

493. Medinet-ous-Salam, R. لله a. 227.
الوائق بالله
494. Sarra-man-raa (بسرمن راى), id. a. 227.
Fr. No. 288.
495. Medinet-ous-Salam, id. a. 230.
496. Sarra-man-raa, id. a. 230.
Fr. No. 290.
497. Isbahan, id. a. 232.
Fr. No. 292.
-

Abou'l-Fadhl Djafar el-Moutavakkil-ala'llah.

498. Medinet-ous-Salam, R. لله a. 233.
التوكل على الله
499. Medinet-ous-Salam, id. a. 234.
Fr. No. 294.
500. Fars, id. a. 235.
Fr. No. 297.
501. Medinet-ous-Salam, id. a. 236.
502. Medinet-ous-Salam, id. a. 236.

- No. 503. Medinet-ous-Salam, id. a. 237.
504. Sarra-man-raa, id. a. 237.
505. el-Basrah? id. a. 238.
effacée.
506. el-Koufah, id. a. 239.
très effacée.
Fr. No. 303.
507. Isbahan, id. a. 239.
Fr. No. 301.
508. el-Basrah, A. R. id. a. 242.
rognée. المعتز بالله
- Fr. No. 307.
509. Sarra-man-raa, A. id. R. id. a. 242.
percée en bas à gauche.
510. Arminiyah, R. id. a. 243?
Fr. No. 310.
511. Medinet-ous-Salam, a. 244.
A. R.
effacé effacé
Fr. No. 312. المنوكل على الله
512. Dimeschk, A. R. id. a. 245?
المعتز بالله
Fr. No. 313. T. No. 1927.
513. Dimeschk, A. id. R. id. a. 245?
les inscriptions circulaires extérieures
en grande partie effacées.
514. Dimeschk, A. id. R. id. a. 245?
les inscriptions circulaires en grande
partie effacées.

- No. 515. Medinet-ous-Salam, A. id. R. id. a. 246.
Fr. No. 316.
516. el-Basrah, A. $\frac{\text{effacé}}{\text{المعز بالله}}$ R. $\frac{\text{effacé}}{\text{المتوكل على الله}}$ a. 247.
en partie rognée.
517. el-Koufah? A. id. R. id. a. 247.
très effacée et rognée.
518. Samarcand, A. $\frac{\text{effacé}}{\text{المعز بالله}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{المتوكل على الله}}$ a. 24 .
les inscriptions circul. extér. effacées.
519. ...? A. entièrement effacé. R. $\frac{\text{المتوكل على الله}}$ a. ?

Abou'l-Abbas Ahmed el-Moustain-billah.

520. effacée. A. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{effacé.}}$ a. 249.
521. Isbahan, A. $\frac{\text{العباس بن}}{\text{امير المؤمنين}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{المستعين بالله}}$ a. 250.
Fr. No. 320.
522. effacée. A. R. a. 250.
523. effacée. A. $\frac{\text{العباس بن}}{\text{امير المؤمنين}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{المستعين بالله}}$ a. ?
524. effacée (?? من رأى?). a. 25?.

Abou-Abdillah Mouhammed el-Moutazz-billah.

- No. 525. Sarra-man-raa, R. الله a. 251.
المعتز بالله
امير المومنين
526. effacée. id. a. 251.
527. Arminiyah, id. a. 252.
528. Arminiyah, id. a. 252.
529. Arminiyah, id. a. 252.
530. Sarra-man-raa, id. a. 252.
531. Sarra-man-raa? id. a. 252.
très effacée.
532. effacée, id. a. 25?.
533. effacée, id. a. 252?
534. effacée, id. a. 252.
535. effacée, id. a. ???.
536. effacée, id. a. ???.
537. Nissibin (بنصيبين), id. a. 254.
A. الله R. الله a. 254.
عبد الله بن المعتز بالله
امير المومنين امير المومنين
الله

Abou-Abdillah (al. Abou-Djafar) Mouhammed el-Mouhtadi-billah.

538. Arminiyah, R. الله a. 256.
الهندي بالله

- Abou'l-Abbas Ahmed el-Moutamid al'allah.**
- No. 539. Medinet-ous-Salam, a. 256.
A. جعفر R. الله
المعتمد على الله
Fr. No. 336.
540. effacée, A. id. R. الله a. 25?
المعتمد على الله
...?
541. el-Maousil (بالموصل), a. 258.
A. id. R. الله
المعتمد على الله
Fr. No. 343.
542. effacée. A. id. R. id. a. 260.
543. Medinet-ous-Salam, A. id. R. id. a. 260.
à moitié effacée.
Fr. No. 345.
544. Medinet-ous-Salam, A. يعقوب R. id. a. 260.
545. Isbahan, A. جعفر R. id. a. 261.
Fr. No. 347.
546. A...? A. id. R. الله a. 261?
المعتمد على الله
547. effacée, A. الموفق بالله R. الله a. 263.
المعتمد على الله
548. A. Sarra-man-raa, a. 265.
A. الموض الى الله R. الله a. 265.
المعتمد على الله
ع

- No. 549. effacée, A. id. R. $\frac{\text{الله}}{\text{المعتمد على الله}}$ a. 267.
lég. effacée.
550. effacée, A. id. R. id. a. 267.
551. effacée, A. $\frac{\text{يعقوب}}{\text{يعقوب}}$ R. id. a. ?
552. effacée, A. id. R. id. a. ?
-

Abou-Mouhammed Aly el-Mouktafi-billah.

553. Tifis (بتفليس), R. $\frac{\text{الله}}{\text{المكتفى بالله}}$ a. 294.
-

Abou'l-Fadhl Djafar el-Mouktadir-billah.

554. Medinet-ous-Salam, a. 313.
A. $\frac{\text{ابو العباس بن امير المؤمنين}}{\text{ابو العباس بن امير المؤمنين}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{المقتدر بالله}}$
Fr. No. 396.
555. Arredjan? (اذر يجان ou جرجان ou ارجان), a. 316.
Fr. No. 398. T. N. 2334. R. id.
556. Sarra-man-raa, R. id. a. 319.
lég. en partie effacée; deux-trous à droite.
557. effacée, R. id. a. 31 ?
très effacée et rognée.
-

Abou'l-Abbas Ahmed er-Radhi-billah.

- No. 558. el-Rafikah? R. $\frac{\text{الله}}{\text{الراضى بالله}}$ a. 321?
559. Medinet-ous-Salam, R. id. a. 327?
560. Medinet-ous-Salam, R. id. a. ?
fragment.
-

Abou-Ishak el-Mouttaki-billah.

561. Medinet-ous-Salam, a. 303.
- A. $\frac{\text{ابو منصور بن}}{\text{امير المؤمنين}}$ R. $\frac{\text{الله}}{\text{المتقى بالله}}$ a. 303.
-

Abbaside.

562. el-Mouhammediyah, a. ?
rognée.
-

APPENDICE.

CLASSES I & II.

A.

MONNAIES DE CUIVRE INCERTAINES AVEC DES FIGURES.

No. 1. Tabariyah.

A. لا اله
الا الله
وحده

R. محمد
رسول
الله

Marges en partie illisibles.

v. Poole, p 183, No. 53. Ties. No. 2599.

2.

A. لا اله
الا الله
وحده

R. محمد
رسول
الله

Marges illisibles.

v. Nanian. No. XIX.

3.

A. لا اله
الا الله
وحده

R. محمد
رسول
الله

Marges indéchiffrables.

No. 4.

A. لا اله
وحدَه



Marge indéchiffable.

R. figure..?

5. (2 ex.)

A. بِسْمِ اللّٰهِ
لا اله الا
الله وحدَه

Récensio p. 26**. No. 4.

R. Marge: محمد رسول الله;
au milieu

A. بِسْمِ اللّٰهِ
لا اله الا ..
وحدَه ?

au milieu:

R. Marge: محمد رسول الله

7.

A. بِسْمِ اللّٰهِ
لا اله الا ا ..
وحدَه

au milieu: وعبدَه

R. Marge: محمد رسول الله

8.

A. لا اله
الا الله
وحدَه

v. Poole, p. 175. No. 17.

R. محمد

رسول
الله

9.

A. لا اله الا
الله وحدَه
لا شريك له

Marge illisible.

R. محمد
رسول
الله

10.



A. لا اله ا
لا الله
○
وحدَه ?


R. محمد
رسول
الله

B.

SANS FIGURES.

| | | | | |
|--------|----|--------------------------------|----|-------------------------------|
| No. 1. | A. | لا اله (1) لا اله | R. | محمد رسول الله |
| 2. | A. | لا اله الا .. | R. | محمد (رسول) ... أ... |
| 3. | A. | اله لا اله وحده | R. | محمد رسول الله rogné |
| 4. | A. | لا اله الا اله وحده | R. | محمد رسول ... |
| 5. | A. | id. | R. | محمد رسول الله |
| 6. | A. | لا اله الا اله | R. | محمد رسول الله |
| 7. | A. | لا اله الا اله وحده | R. | محمد رسول الله |
| 8. | A. | id. | R. | id. |
| 9. | A. | لا اله الا اله وحده | R. | ... رسول الله |
| 10. | A. | id. | R. | محمد رسول الله |

- No. 11. A. لا اله الا الله وحده R. محمد رسول الله
- 12—15. id. se distinguant seulement par le timbre.
16. A.  R. id. dans un carré.
- Coll. Adler, 1. Tab. VII, No. XXII.
17. A. لا اله الا الله jusqu'à لا شريك له R. امر الله (بال) وفا و العدل
Ties. No. 2571.
18. A. لا اله الا الله وحده R. 
19. A. الله ?
بسم الله
petit module. R. محمد رسول الله
20. A. اسم الله لا اله الا الله وحده. R. محمد رسول الله
- 21 et 22. A. لا اله الا الله وحده R. ضرب هذا الفلوس بدمشق.
23. A. لا اله الا الله
بسم الله
Marge ... R. محمد رسول الله (sic) وحده
24. A. لا اله الا الله
... R. محمد رسول الله
Marge? الامير الامين

- No. 25. A. لا اله الا الله وحده
لا شريك له
msr. ضرب هذا الفلاس
- R. محمد رسول الله
ع (Abbaside?)
26. A. لا اله الا الله وحده
لا شريك له
- R. محمد رسول الله
ع... ?
- Marg. illisible (Abbaside). Marg. بسم الله ضرب هذا الفلاس ...
27. (2 exempl.) A. لا اله الا الله (ا?)
وحده
Nov. Suppl. p. 27, No. 1, b.
- R. محمد عبد الله ورسوله
28. A. لا اله الا الله وحده
لا شريك له
- R. محمد رسول الله يزيد
29. A. لا اله الا الله وحده
لا شريك له
- R. 
30. A. لا اله الا الله وحده
لا شريك له
- R. محمد رسول الله
31. A.
الله وحده
لا شريك له
Marg. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر...
- R. الله احد الله
... لم يلد ...
Marg. بسم الله ضرب هذا ...

CL. III.

KHALIFES OUMAÏADES.

EN ESPAGNE.

(V. Fraehn, Opusc. msc. No. XIX, p. 12).

Abdou'r-Rahman I.

No. 1. el-Andalous, A. لا اله الا الله R. الله احد النجم a. 148.

Hischam I.

2. el-Andalous, A. id. R. id. a. 178.

El-Hakim I ou Abdou'r-Rahman II.

3. el-Andalous, A. id. R. id. a. 206.
(mal frappée).

4. el-Andalous, A. id. R. id. a. 237???

Mouhammed I.

5. el-Andalous, A. id. R. id. a. 240.
معاد

Monnaie incertaine.

6. Æ. el-Andalous, A. id. R. بالاندلس a. . . . ?
(Une étoile dans un rond).

V. Fraehn, Recensio, p. 6*** No. 3. Conde, Sobre
la moneda arabiga, p. 269.

CL. IV.

KHALIFES HAMOUDIDES.

EN ESPAGNE.

(Fr. l. c. p. 56).

Mouhammed el-Mehdi.

No. 1. *Æ.*, el-Andalous,

a. 441?

A. لا اله الا الله وحده لا شريك له

M. بسم الله ضرب هذا الدرهم

بالاندلس سنة احدى وار (sic)

(le reste manque).

R. الامير ?

الامام محمد

امير المؤمنين

المهدي بالله

بجى

محمد رسول الله

ارسله الخ

Deux grands trous; v. Recensio, p. 4***).

CL. V.

MOURABITES.

EN ESPAGNE.

(Fr. l. c. No. VII, p. 88).

Ali ben Yousouf.

No. 1. *N.* Almería (بالمرية),

a. 515.

A. لا اله الا الله

محمد رسول الله

1. Dans le rond امير المسلمين على

بن يوسف

2. Autour ومن يتبع غير الاسلام

دينا فلن يقبل منه وهو في

الآخرة من الخاسرين (Soura 3, v. 79.)

R. Dans le rond



c.-à-d. الامام

عبد

الله

امير المؤمنين

autour بسم الله ضرب هذا

الدينار بالمريية عا (sic)

خمسة عشر وخمسمائة

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|
| No. 2. | <i>N.</i> Alméria, | A. id. | R. id. | a. 515. |
| 3. | <i>N.</i> Alméria, | | | a. 515. |
| 4. | <i>N.</i> Grenade (غرناطة), | A. id. | R. id. | a. 516. |
| | | ما | لل | |
| 5. | <i>N.</i> Grenade, | A. id. | R. id. | a. 516. |
| 6. | <i>N.</i> Grenade, | A. id. | | a. 516. |
| 7. | <i>N.</i> Séville (باشبيلية), | | | a. 516. |
| | A. id. | لا اله الا الله | R. id. | |
| 8. | <i>N.</i> Séville, | A. id. | R. id. | a. 516. |
| 9. | <i>N.</i> Grenade, | A. id. | R. id. | a. 517. |
| | | ما | | |
| | | لا اله الا الله | | |
| 10. | <i>N.</i> Grenade, | A. id. | R. id. | a. 517. |

- No. 11. *N.* Séville, A. id. R. id. a. 517.
v. No. 8.
12. *N.* Almería, A. id. R. id. a. 517.
 $\frac{\circ}{\text{لا اله الا الله}}$ $\frac{\text{مر}}{\text{—}}$
13. *N.* Séville, A. id. R. id. a. 518.
v. No. 8. $\frac{\text{لك}}{\text{—}}$
14. *N.* Almería, A. id. R. id. a. 518.
 $\frac{\circ}{\text{لا اله الا الله}}$ $\frac{\text{مر}}{\text{—}}$
15. *N.* Séville, A. id. R. id. a. 519.
v. No. 8.
16. *N.* Séville, A. id. R. id. a. 519.
17. *N.* Almería, A. id. R. id. a. 521.

NB. Ces dix-sept pièces, parfaitement conservées, paraissent frappées d'hier.

CL. VI.

IMAMS IDRISIDES.

(V. Fraehn, l. c. p. 52.)

Idris I.

- No. 1. Badaah (بيدعة), a. 174.
A. لا اله الا الله وحده لا شريك له
بسم الله ضرب هذا الدرهم
بيدعة سنة اربع وسبعين ومية
autour

R.

... °
محمد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
على

ما امر به ادريس بن عبد الله جاء الحق وزهق الباطل ...
autour le reste, en partie, effacé, en partie rogné.
Sour. 17, v. 83.

No. 2. Badaah, A. id. R. id. moins ... ° a. 174.
autour légende complète. Cercle intérieur
en grenetis.

3. Badaah, A. id. R. id. a. 174.

4. Badaah, A. id. R. id. a. 174.
légende et cercle, en partie effacés.

5. Valilah (بوليلة), A. id. R. id. a. 174.

NB. Cette monnaie Idriside, ainsi que toutes
les suivantes, ont leurs cercles intérieurs
en grenetis: A. double ou triple, R. un
seul.

6. effacé (?) a. 17?

A. légende effacée à l'exception des deux
premiers chiffres de l'année.

R. légende, en partie, effacée et en partie,
rognée:

محمد رسول
الله
(خلف) حلب

ما امر به ... امر بالحق
... البر والتقوى بركة من الله

- No. 7. Badaah (?), a. 175.
A. id. rognée; cerc. triple.
R. en partie effacé.
محمد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
علي
ما امر به ادريس بن عبد (الله?) جالحق
وتحق الباطل ان الباطل كان زهوقا
8. Badaah, A. id. R. id. a. 175.
légende circulaire, en partie, enlevée par
la rognure.
9. Badaah, A. id. R. محمد
رسول
الله
حلب a. 175.
M. ما امر به حلب ... بن المطا? بر امر بالحق
والوفا... تقوى بركة من الله
fendue jusqu'au cercle intérieur; légende,
en partie, effacée.
10. Badaah, A. id. R. id. a. 175.
11. Badaah, A. id. R. محمد
رسول
الله
مد a. 17.
محمد رسول الله ارسله بالهدى النخ
12. Badaah, A. id. R. محمد
رسول
الله
حلب a. 175.
ما امر به ... بن المطا امر بالحق النخ
très effacée; sous le mot المطا en très petits
caractères, le mot حميد.

- No. 13. Badaah, A. id. R. id. a. 176.
autour **مما امر به حلب بن المطا امر بالحق الخ**
14. Badaah, A. id. R. id. a. 176.
15. Badaah, A. id. R. id. a. 176.
un peu fendue.
16. Valilah, A. id. R. **ادريس** a. 176.
محمد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
على
autour **مما امر به ادريس بن ادريس**
جاء الحق وزهق الباطل ...
le reste, en partie rogné, en partie, effacé.
17. Valilah, A. id. R. **ع** a. 176.
محمد
رسول
الله
ع
autour **محمد رسول الله ارسله بالهدى الخ**

Idris II.

18. Valilah, A. id. R. **ادريس** a. 180.
محمد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
على
autour **مما امر به ادريس بن ادريس جاء الحق الخ**
19. Valilah, A. id. R. id. a. 181.
20. Valilah, A. id. R. id. a. 183.
21. Valilah, A. id. R. id. a. 184.

No. 22. Badaah (Idris I ou II?),

a. 177 ou 187?

A. id. R.



la lettre \rightarrow de ce dernier mot est effacée.

autour محمد رسول الله ارسله بالهدى الخ

CL. VII.

EMIRS AGHLABIDES.

(V. Fraehn, l. c. No. VII, p. 33.)

Ibrahim I.

1. el-Abbasiyah, a. 185.

A. لا اله الا الله وحده لا شريك له
R. غلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم

2. Afrikiyah, A. id. R. غلب ابراهيم a. 186.

3. Afrikiyah (?), A. id. R. غلب ابراهيم a. 186.

ما امر به الامير المامون عبد الله بن امير المؤمنين

v. Fr. Recensio p. 14***

4. ? (Ibrahim I ou II), a. ?

A. لا اله الا الله R. id.

petit module, mince, rognée.

Ibrahim II.

- No. 5. ? A. لا اله الا الله R. id. a. ?
petit module, rognée, effacée.

CL. VIII.

KHALIFES FATIMIDES.

(V. Fraehn, l. c. No. VI, p. 47.)

El-Mouizz-Il-dini'llah Abou-Temim Maadd I.

- No. 1. *N.* Misr, a. 364.

A. au milieu un point dans un petit rond;
autour du

- 1^r cercle المعز لدين الله امير المؤمنين
2^{me} » دعا الامام معد لتوحيد الاله (sic) الصمد
3^{me} » بسم الله ضرب هذا الدينار بصر سنة
اربع وستين وثلاثماية

R.

- 1^r cercle لا اله الا الله محمد رسول الله
2^{me} » وعلى افضل الوصيين ووزير خير المرسلين
3^{me} » محمد رسول الله ارسله بالهدى الخ

2. *N.* Misr, *A.* id. *R.* id. a. 365.

3. *N.* ? *A.* id. *R.* id. a. ?

les cercles avec la date et la ville ainsi que
le verset du Koran manquent; percée.

Sur les monnaies de ce Khalife, mentionnées
par Marsden et Adler, v. Fraehn, opusc.
post. II, p. 263—265 et 236 et sur celles
d'el - Moustansir - billah Abou - Temim
Maadd, *ibid.* p. 24 et 231.

El-Hakim bi amri'llah Abou-All el-Mansour.

No. 4. *N.* Misr,

a. 398.

A. au milieu امير المومنين || الحاكم بامر الله
au 1^r c. الامام عبد الله ووليه المنصور ابو علي
بسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان
2^m c. وتسعين وثلثمائة

R. au milieu محمد رسول الله || علي ولي الله
au 1^r c. لا اله الا الله وحده لا شريك له
cercle exter. محمد رسول الله ارسله الخ

El-Amir bi-ahkami'llah el-Mansour Abou-All.

5. *N.* Misr,

a. 510.

A. au milieu الامام || المنصور
ابو علي الامر باحكام الله امير المومنين
au 1^r c. بسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة
2^m c. عشر وخمسمائة

R. au milieu عال || حاية
au 1^r c. لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله
2^m c. intér. محمد رسول الله ارسله الخ

CL. IX.

MOUVAHHIDES.

(V. Stanley Lane Poole, On the coins of the Muwahhids in the British Museum. London: 1873. Fraehn, l. c. No. VII, p. 124.)

No. 1. Petite monnaie en argent de forme carrée.

| | |
|---|--|
| A. لا اله الا الله الامر كله لله لا قوة الا بالله | R. الله ربنا محمد رسولنا المهدي امامنا |
|---|--|

2←7. A. id. R. id.

8. A. id. R. id.
très effacée, à oreillette arrachée.

9. A. الحمد لله R. ?

العالمين
percée en deux endroits.

SUPPLÉMENT.

P. 3.

No. 35a. el-Andalous (بالاندلس),

a. 121

Fr. No. 46.

RECTIFICATIONS.

(v. p. XIV).

P. 25, No. 296 etc. Bokhara l. Boukhara; p. 29, No. 353
grenelle l. grenetis; p. 31, No. 355 l. المسلمین; p. 34, No. 417

l. ربى الله au lieu de ~~ربى~~ (v. Recensio, p. 7** No 272);
الامين
p. 35, No. 428 etc. l. ذو الرياستين; p. 46, Aly l. Ali; p. 61,
No. 3, V. la monnaie est d'argent.
